

# Ecc

## Chapter 7

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	טוֹב	שֵׁם	מִשְׁמָן	טוֹב	וַיּוֹם	הַמָּוֶת	מִיּוֹם	הַקָּדוֹשׁ:
	بہتر	نام	سے-تیل	عمدہ	اور-دن	موت-کا	سے-دن	اُس-کی-پیدائش-کے
	H8034	H8081	H3205	H3117	H4194	H3117	H3205	H3205

بے-بہتر سے دن کے پیدائش دن کا موت اور سے تیل خوشبودار نام اچھا

2	טוֹב	לָלֶכֶת	אֶל-	בֵּית-	אֶבֶל	מִלְכֶת	אֶל-	בַּאֲשֶׁר	הוּא
	بہتر	جانا	کی-طرف	گھر	ماتم-کے	سے-جانا	کی-طرف	کیونکہ	وہ
	H3212	H4013	H0413	H0060	H3212	H0413	H4960	H1931	H1931

3	סוֹף	כָּל-	הָאָדָם	וְהַחַי	יָתֵן	אֶל-	לְבָבוֹ:
	انجام	پر	آدمی-کا	اور-زندہ	رکھے-گا	کی-طرف	اپنے-دل-میں
	H5490	H3605	H0120	H5414	H0413		

بات اس وہ ہیں زندہ جو ہے۔ بی موت انجام کا انسان ہر کیونکہ ہے، بہتر جانا میں گھر کے والوں کرنے ماتم نسبت کی جانے میں گھر کے والوں کرنے ضیافت دیں۔ دھیان خوب پر

3	טוֹב	כָּעַס	מִשְׁחָק	כִּי-	בָרַע	פָּנִים	יָיִטֵב	לֵב:
	بہتر	غم	سے-ہنسی	کیونکہ	سے-اداسی	چہرے-کی	بہتر-ہوتا-ہے	دل
	H7814	H7455	H6440	H3190				

بے-باعث کا بہتری کی دل چہرہ ہوا اُترا ہے، بہتر سے ہنسی دکھ

4	לֵב	חֲכָמִים	בְּבֵית	אֶבֶל	וְלֵב	כְּסִילִים	בְּבֵית	שְׂמֵחָה:
	دل	داناؤں-کا	میں-گھر	ماتم-کے	اور-دل	بے-وقوفوں-کا	میں-گھر	خوشی-کے
	H2450	H0060	H3684	H2450	H3684	H8057		H8057

بے-جاتا ٹک میں گھر کے والوں کرنے عشرت و عیش دل کا احمق جبکہ ٹھہرتا میں گھر کے والوں کرنے ماتم دل کا مند دانش

5	טוֹב	לְשֹׁמֵעַ	נִעְרַת	חָכֵם	מְאִישׁ	שֹׁמֵעַ	שִׁיר	כְּסִילִים:
	بہتر	سُننا	ڈانٹ	دانا-کی	سے-شخص	سننے-والے	گیت	بے-وقوفوں-کا
	H8085	H1606	H2450	H0376	H8085	H3684		H3684

بے-بہتر دینا دھیان پر جھڑکیوں کی مند دانش نسبت کی سننے گیت کے احمقوں

6	כִּי	קְדוֹלָה	הַסִּרְיִם	תַּחַת	הַסִּיר	כֵּן	שֹׁחֵק	הַכְּסִילִים	וְגַם-	זֶה	הַבָּל:
	کیونکہ	کی-طرح-آواز	کانتوں-کی	نیچے	دیگ-کے	ایسی	ہنسی	بے-وقوف-کی	اور-بھی	یہ	بطلان
	H8478	H1571	H3684	H7814	H1892	H2088	H1571	H3684	H1892	H2088	H1892

بے-بی باطل بھی یہ ہیں۔ مانند کی آگ کی کانتوں والے چٹخنے تلے دیگچی قہقہے کے احمق

7	כִּי	הַעֲשָׂק	יְהוֹלֵל	חָכֵם	וַיֵּאבֶד	אֶת-	לֵב	מִתְנַהֵ:
	کیونکہ	ظلم	دیوانہ-بنا-دیتا-ہے	دانا-کو	اور-تباہ-کر-دیتی-ہے	(عبری)	دل	رشوت
	H6233	H2450	H0006	H0853				H4979

بے-دیتی بگاڑ کو دل رشوت دیتا، بنا احمق کو مند دانش نفع ناروا

8	טוֹב	אֲחֵרִית	דָּבָר	מִרְאשִׁיתוֹ	טוֹב	אֲרָד-	רוּחַ	מִנְבֹּחַ-	רוּחַ:
	بہتر	انجام	کام-کا	سے-اُس-کی-ابتدا	بہتر	صبر	روح-کا	سے-تکبر	روح-کے
	H0319	H1697	H7225	H0750	H7307	H1362	H7307	H1362	H7307

بہتر سے ہونے مفرور کرنا صبر ہے، بہتر سے ابتدا کی اُس انجام کا معاملے کسی

9	אַל-	תְּבַלָּה	בְּרוּחָהּ	לְכַעֵס	כִּי	זַעַם	בְּחֵיק	כְּסִילִים	יְנוּחַ:
	نہ	جلدی-کر	اپنی-روح-میں	غصہ-کرنے-کے-لیے	کیونکہ	غصہ	میں-سینے	بے-وقوفوں-کے	رہتا-ہے
	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H0926</a>	<a href="#">H7307</a>	<a href="#">H3707</a>			<a href="#">H2436</a>	<a href="#">H3684</a>	<a href="#">H5117</a>

ہے۔ کرتا آرام ہی میں گود کی احمقوں غصہ کیونکہ کر، نہ جلدی میں کرنے غصہ

10	אַל-	תֹּאמַר	מָה	הֲיָה	שְׁהַיְמִים	הֲרֹאשִׁים	הֵיוּ	טוֹבִים	מֵאַלְהָ	כִּי	לֹא	מִחֲכָמָה
	نہ	کہ	کیوں	تھے	کہ-دن	پہلے	تھے	بہتر	سے-ان	کیونکہ	نہیں	سے-دانائی
	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7223</a>	<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H0428</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H2451</a>

שָׂאֵלָה	עַל-	זָה:
پوچھتے-ہو-تو	کے-بارے-میں	اس
<a href="#">H7592</a>		<a href="#">H2088</a>

نہیں۔ بات کی حکمت یہ کیونکہ تھا، کیوں بہتر زمانہ پرانا نسبت کی آج کہ پوچھ نہ یہ

11	טוֹבָה	חֲכָמָה	עִם-	נִחְלָה	וְיִתֵּר	לְרֹאֵי	הַשָּׁמַשׁ:
	اچھی	حکمت	ساتھ	میراث	اور-فائدہ	کے-لیے-دیکھنے-والوں	سورج
	<a href="#">H2451</a>	<a href="#">H2451</a>	<a href="#">H5159</a>	<a href="#">H3148</a>	<a href="#">H3148</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H8121</a>

ہیں۔ دیکھتے سورج جو بے سودمند لئے کے اُن یہ ہے، بات اچھی یہ تو جائے مل بھی ملکیت میں میراث علاوہ کے حکمت اگر

12	כִּי	בְּצַל	הַחֲכָמָה	בְּצַל	הַחֲכָמָה	וְיִתְרוֹן	נִשְׁעַת	הַחֲכָמָה	תְּחִיָּה
	کیونکہ	میں-سایے	حکمت-کے	میں-سایے	چاندی-کے	اور-فائدہ	علم-کا	حکمت	زندہ-رکھتی-ہے
		<a href="#">H6738</a>	<a href="#">H2451</a>	<a href="#">H6738</a>	<a href="#">H3701</a>	<a href="#">H3504</a>	<a href="#">H1847</a>	<a href="#">H2451</a>	<a href="#">H2421</a>

בְּעֵלְיָהּ:
کو-اُس-کے-مالکوں
<a href="#">H1167</a>

ہے۔ رکھتی بچائے جان کی مالک اپنے وہ کہ بے یہ فائدہ خاص کا حکمت لیکن ہے، دیتی پناہ طرح کی پیسوں حکمت کیونکہ

13	רְאֵה	אֶת-	מַעֲשֵׂה	הָאֱלֹהִים	כִּי	מִי	יֻכַּל	לְחַקֵּן	אֶת	אֲשֶׁר	עֲוֹתָיו:
	دیکھ	(عبری)	کام	خدا-کا	کیونکہ	کون	سکتا-ہے	سیدھا-کرنا	(عبری)	جسے	ٹیزھا-کیا-اُس-نے
	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H3201</a>	<a href="#">H8626</a>	<a href="#">H8626</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H5791</a>

ہے؟ سکتا سلجھا اُسے کون بنایا دار پیچ نے اُس کچھ جو کر۔ ملاحظہ کا کام کے اللہ

14	בְּיָוִם	טוֹבָה	הִיָּה	בְּטוֹב	וּבְיָוִם	רָעָה	רָעָה	נָם	אֶת-	זָה	לְעִמְת-
	میں-دن	بھلائی-کے	رہ	میں-بھلائی	اور-میں-دن	برائی-کے	غور-کر	بھی	(عبری)	اس-کو	کے-مقابل
	<a href="#">H3117</a>		<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H5980</a>	

זָה	עֲשָׂה	הָאֱלֹהִים	עַל-	רְבִרְת	שְׁלֹא	יִמְצָא	הָאָדָם	אֲחֵרָיו	מְאוּמָה:
اُس	بنایا	خدا-نے	کے-لیے	بات	کہ-نہ	پائے	آدمی	اُس-کے-بعد	کچھ-بھی
<a href="#">H2088</a>		<a href="#">H0430</a>		<a href="#">H1700</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H3972</a>	

نہ معلوم کچھ میں بارے کے مستقبل اپنے انسان کہ لئے اِس بھی وہ اور بنایا بھی دن یہ نہ اللہ کہ رکھ خیال دن کے مصیبت لیکن ہو، خوش دن کے خوشی سکے۔ کر

15	אֶת-	הַכֹּל	רְאִיתִי	בְּיָמַי	הַכְּלִי	יֵשׁ	צְדִיק	אֲבִד	בְּצַדִּיק	וַיֵּשׁ
	(عبری)	سب	دیکھا-میں-نے	میں-دنوں	اپنی-بطلان-کے	ہے	راستباز	فنا-ہونے-والا	اپنی-راستبازی-میں	اور-ہے
	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H1892</a>	<a href="#">H3426</a>	<a href="#">H6662</a>	<a href="#">H0006</a>	<a href="#">H6664</a>	<a href="#">H3426</a>

רְשָׁע	מֵאֲרִיךְ	בְּרַעְתָּו:
شریر	لمبا-کرنے-والا	اپنی-برائی-میں
<a href="#">H7563</a>	<a href="#">H0748</a>	

اپنی بے دین طرف دوسری جبکہ جاتا ہو تباہ باوجود کے بازی راست اپنی باز راست طرف ایک ہیں۔ دیکھی باتیں دو نے میں دوران کے زندگی عبث اپنی ہے۔ جاتا ہو رسیدہ عمر باوجود کے بے دینی

16	אַל-	תְּהִי	צַדִּיק	הַרְבֵּה	וְאֵל-	תִּתְחַכֵּם	יִוְתַר	לְמָה	תְּשׁוּמִם:
	نه	بن	راستباز	بہت	اور-نہ	دانا-بن	زیادہ	کیوں	خود-کو-برباد-کرے-تو
	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H6662</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H2449</a>	<a href="#">H3148</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H8074</a>	

بے ضرورت کیا کی کرنے تباہ کو آپ اپنے مندی۔ دانش زیادہ سے حد نہ دکھا، بازی راست زیادہ سے حد نہ

17	אַל-	תִּרְשַׁע	הַרְבֵּה	וְאֵל-	תְּהִי	סָקֵל	לְמָה	תִּמְוֹת	בְּלֹא	עֲתִד:
	نه	شرارت-کر	بہت	اور-نہ	بن	احمق	کیوں	مرے-تو	بغیر	تیرے-وقت-کے
	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H7561</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H5530</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H6256</a>	

بے ضرورت کیا کی مرنے پہلے سے وقت مقررہ دکھا۔ حماقت زیادہ سے حد نہ بے دینی، زیادہ سے حد نہ

18	טוֹב	אֲשֶׁר	תִּאָחֶזוּ	בְּזָה	וְנִם-	מִזָּה	אֵל-	תִּנַּח	אֶת-	יִרְדָּ	כִּי-	יִרְא
	اچھا	کہ	پکڑے-تو	اسے	اور-بھی	اُس-سے	نہ	چھوڑ	(عبری)	اپنا-ہاتھ	کیونکہ	ڈرنے-والا
	<a href="#">H0270</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H3240</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H3373</a>		

اَلْاٰهِيْم	يٰۤاٰ	اٰت-	كَلِم:
خدا-سے	نکلے-گا	(عبری)	سب-سے
<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>

گا۔ نکلے بچ سے خطروں دونوں وہ مانے خوف کا اللہ جو چھوڑے۔ نہ بھی دوسری اور رکھے تھامے بات یہ تو کہ بے اچھا

19	הַחֲכָמָה	תִּעֲזוּ	לְחַכְמֵם	מִעֲשָׂרָה	שְׁלִישִׁים	אֲשֶׁר	הָיוּ	בְּעִיר:
	حکمت	مضبوط-کرتی-ہے	کو-دانا	سے-دس	حکمرانوں	جو	تھے	میں-شہر
	<a href="#">H2451</a>	<a href="#">H5810</a>	<a href="#">H2450</a>	<a href="#">H6235</a>	<a href="#">H7989</a>	<a href="#">H1961</a>		

بے۔ دیتی بنا ور طاقت زیادہ سے حکمرانوں دس کے شہر کو مند دانش حکمت

20	כִּי	אֲדָם	אֵין	צַדִּיק	בְּאֶרֶץ	אֲשֶׁר	יַעֲשֶׂה-	טוֹב	וְלֹא	יִחַטָּא:
	کیونکہ	آدمی	نہیں-ہے	راستباز	میں-زمین	جو	کرے	بھلائی	اور-نہ	گناہ-کرے
	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H6662</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H2398</a>				

کرے۔ نہ گناہ کبھی اور کرے کام اچھا ہمیشہ کہ نہیں باز راست اتنا انسان بھی کوئی میں دنیا

21	נָם	לְכָל-	הַדְּבָרִים	אֲשֶׁר	יִדְבְּרוּ	אֵל-	תִּתֵּן	לְבָדָ	אֲשֶׁר	לֹא-	תִּשְׁמַע	אֶת-
	بھی	کو-سب	باتوں	جو	کہیں	نہ	دی	اپنا-دل	کہ	نہیں	سنے-تو	(عبری)
	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H0408</a>	<a href="#">H5414</a>		<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H0853</a>			

עֲבָדָה	מִקְלָלָה:
تیرے-نوکر-کو	لعنت-دینے-والے-تجھے
<a href="#">H5650</a>	<a href="#">H7043</a>

بے۔ کرتا پر تجھ وہ جو لے سن بھی لعنت کی نوکر تو کہ ہو نہ ایسا دے، نہ دھیان پر بات بر کی لوگوں

22	כִּי	נָם-	בְּעַמִּים	רַבּוֹת	יִרְעַ	לְבָדָ	אֲשֶׁר	נָם-	[את]	אֶתְהָ (	קְלָלָה	אֲחֵרִים:
	کیونکہ	بھی	دفعہ	بہت	جانتا-ہے	تیرا-دل	کہ	بھی	[قدیم]	تو-نے	لعنت-کی	دوسروں-کو
	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H6471</a>	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H1571</a>	<a href="#">H7043</a>	<a href="#">H0312</a>						

بے۔ بھیجی لعنت پر دوسروں بار متعدد خود نے تو کہ بے جانتا تو میں دل کیونکہ

23	כָּל-	זֶה	נְסִיתִי	בְּחַכְמָה	אֲמַרְתִּי	אֲחַכְמָה	וְהָיָ	רְחוקָה	מִמְנִי:
	یہ-سب	یہ	آزمایا-میں-نے	ساتھ-حکمت	کہا-میں-نے	میں-دانا-بنوں-گا	اور-وہ	دور	مجھ-سے
	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H2090</a>	<a href="#">H5254</a>	<a href="#">H2451</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H2449</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H7350</a>	

رہی۔ دور سے مجھ حکمت لیکن ہوں، چاہتا بنا مند دانش میں بولا، میں کی۔ پڑتال جانچ کی باتوں تمام ان نے میں ذریعے کے حکمت

24	רְחוק	מַה-	שְׁתִּיהָ	וְעַמּוֹק	עֵמֶק	מִי	יִמְצְאוּ:
	دور	جو	ہے	اور-گہری	گہری	کون	پائے-گا-اسے
	<a href="#">H7350</a>	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H6013</a>	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H4672</a>	

ہے؟سکتا پہنچ تک تہ کی اُس کون ہے۔ گہرا نہایت اور دُور وہ ہے موجود کچھ جو

25	סְבוּתִי	אָנִי	וְלִבִּי	לְדַעַת	וְלִתּוֹר	וּבְקִשׁ	חֲכָמָה	וְחֲשָׁבוֹן
	پہرا-میں نے	میں	اور-اپنے-دل-نے	جاننے-کے-لیے	اور-تلاش-کرنے-کے-لیے	اور-ڈھونڈنے-کے-لیے	حکمت	اور-حساب
	<a href="#">H5437</a>	<a href="#">H0589</a>		<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H8446</a>	<a href="#">H1245</a>	<a href="#">H2451</a>	<a href="#">H2808</a>

וְלִדְעַת	רָשַׁע	זָכָל	וְהִסְקִלוֹת	הוֹלִלוֹת:
اور-جاننے-کے-لیے	شرارت	ہے-وقوفی	اور-حماقت	دیوانگی
<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H7562</a>	<a href="#">H3689</a>		<a href="#">H1947</a>

کی بے دینی میں نیز، ہیں۔ کیا نتائج صحیح کے باتوں مختلف اور حکمت کہ لگا کرنے تفتیش و تحقیق کی اس سے دھیان پورے کر بدل رُح میں چنانچہ تھا۔چاہتا کرنا معلوم دیوانگی کی بے بودگی اور حماقت

26	וּמוֹצֵא	אָנִי	מָר	מִמּוֹת	אֶת-	הָאִשָּׁה	אֲשֶׁר-	הִיא	מִצוּדִים	וְחַרְמִים	לְבָה
	اور-پاتا-ہوں	میں	کڑوا	سے-موت	(عبری)	عورت-کو	جس-کا	وہ	جال	اور-پھندے	اُس-کا-دل
	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H4751</a>	<a href="#">H4194</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0802</a>		<a href="#">H1931</a>			

אֲסוּרִים	יְדִיָּה	טוֹב	לְפָנַי	הָאֱלֹהִים	יְמִלֵּט	מִמְּנָה	וְחוּטָא	יִלְכֹּד	בָּה:
زنجیریں	اُس-کے-ہاتھ	اچھا	سامنے	خدا-کے	بچے-گا	اُس-سے	اور-گناہگار	پکڑا-جائے-گا	اُس-میں
<a href="#">H0612</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H6440</a>		<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H4422</a>		<a href="#">H2398</a>	<a href="#">H3920</a>	

لیکن گا، نکلے بچ وہ ہو منظور کو اللہ آدمی جو ہیں۔ زنجیریں ہاتھ اور جال دل کا جس ہے، پھندا جو ہے عورت وہ تلخ کہیں سے موت کہ ہوا معلوم مجھے گا۔جائے اُلجھ میں جال کے اُس گار گناہ

27	רָאה	יָה	מִצְאָתִי	אָמְרָה	קְהֵלַת	אֶחָת	לְאַחַת	לְמִצְאָה	חֲשָׁבוֹן:
	دیکھ	یہ	پایا-میں نے	کہتی ہے	واعظ	ایک	کے-ساتھ-ایک	تلاش-کرنے-کے-لیے	حساب
	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H6953</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H2808</a>

پہنچوں۔تک نتائج صحیح تاکہ کیں منسلک ساتھ کے دوسرے ایک باتیں مختلف نے میں جب ہوا معلوم مجھے کچھ سب یہ ہے، فرماتا واعظ

28	אֲשֶׁר	עוֹד-	בְּקִשָּׁה	נִפְשִׁי	וְלֹא	מִצְאָתִי	אָדָם	אֶחָד	מֵאֲלֹהִים	מִצְאָתִי
	جو	ابھی	ڈھونڈی	میری-جان-نے	اور-نہیں	پایا-میں نے	آدمی	ایک	سے-ہزار-میں	پایا-میں نے
	<a href="#">H5750</a>	<a href="#">H1245</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H4672</a>	

וְאִשָּׁה	בְּכָל-	אֵלֶּה	לֹא	מִצְאָתִי:
اور-عورت	میں-سب	ان	نہیں	پائی-میں نے
<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4672</a>

نہیں۔دارعورت دیانت بھی ایک لیکن ملا، مرد دار دیانت ہی ایک صرف مجھے سے میں افراد ہزار ملا۔ نہ وہ رہا ڈھونڈتا میں جسے لیکن

29	לְבַד	רָאה-	יָה	מִצְאָתִי	אֲשֶׁר	עָשָׂה	הָאֱלֹהִים	אֶת-	הָאָדָם	יִשְׂרָאֵל	וְהִמָּה
	صرف	دیکھ	یہ	پایا-میں نے	کہ	بنایا	خدا-نے	(عبری)	آدمی-کو	سیدھا	اور-وہ
	<a href="#">H0905</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H4672</a>		<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H3477</a>	<a href="#">H1992</a>	

בְּקִשׁוֹ	חֲשָׁבוֹת	רָבִים:
ڈھونڈتے-ہیں	منصوبے	بہت-سے
<a href="#">H1245</a>	<a href="#">H2810</a>	

ہیں۔ نکالتے ڈھونڈ چالاکیاں کی قسم کئی وہ لیکن بنایا، دار دیانت کو انسانوں نے اللہ گو کہ ہوا معلوم ہی اتنا صرف مجھے